

دُنیا کے اُس پار

موت کی دلیل تک شنج کرو پس آنے والے لوگوں
کے تاثرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نکلا جائزہ

تحریر:

شیخ الاسلام فقیہ احمد
حضرت مسیح امین موعود علیہ السلام

الدارالislamiyah

لاہور — کراچی

عرض ناشر

شیخ الاسلام فقیر العصر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب
مدظلہ عالم اسلام کی وہ ممتاز علمی شخصیت ہیں جن کی عربی، اردو اور گرینزی
تحریروں سے حمد اللہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ سیراب ہو رہا ہے۔
زیر نظر رسالہ بھی ایک اچھوتے موضوع پر ان کا ایک مضمون
بے جو مئی ۱۹۹۶ء میں روز نامہ جنگ کے ادارتی صحافت پر تین سطون میں
شائع ہوا۔ یہ موضوع انوکھا بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ اس مضمون کو محفوظ
رکھنے کے لئے اب رسالہ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اہل
نظر اس کی قدر کریں گے۔

مضمون کے آخر میں دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے جاری
ہوئے والے ایک فتویٰ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے کیونکہ فتویٰ میں مضمون کا
پورا خلاصہ آسان انداز سے آکیا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت موصوف مدظلہ کے فیوض کو عام سے عام تر
فرمائیں اور اپنی بارگاہ سے جزاۓ خیر عطا کریں۔ والسلام
اشرف مدوار ان سلمہم الرحمن
اورہ اسلامیات لا ہور گراچی

فہرست

اسم اللہ الرحمن الرحیم

دنیا کے اس پار

(۱)

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب صرف
قرآن کریم اور متواتر احادیث ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، آج کوئی بھی شخص
اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس لئے کہ جو
شخص واقعی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے وہ پلٹ کر رہا نہیں آتا۔

کاں را کہ خبر شد ، خبر ش باز نیامد

لیکن چند سال پسلے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی جس میں
چھے ایسے لوگوں کے دلچسپ تجربات و مشاہدات جمع کئے گئے ہیں جو موت

- | | | |
|----|--------------------------------------|----|
| ۵ | مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ | ۱ |
| ۶ | ڈاکٹر ریمنڈز اے مودی کی کتاب | ۲ |
| ۷ | مرنے والوں کے عجیب و غریب تاثرات | ۳ |
| ۱۹ | ڈاکٹر میلوں مورس اور پتوں کے مشاہدات | ۴ |
| ۲۰ | ہاسٹر جارج گلپ کا سروے | ۵ |
| ۲۱ | ان مشاہدات کی حقیقت کیا ہے؟ | ۶ |
| ۲۵ | قرآن کریم میں "توفی" کا لفظ | ۷ |
| ۲۶ | جسم اور روح کا تعلق | ۸ |
| ۲۸ | نیند ہے وہ شی کہ سکتے | ۹ |
| ۳۰ | چند قابلٰ مخاطبائیں | ۱۰ |
| ۳۲ | ایک استثناء (سوال) | ۱۱ |
| ۳۳ | دارالافتاء دارالعلوم کراچی کا جواب | ۱۲ |

مزید تفییش جاری رکھی اور اس کے بعد اس موضوع پر مزید کئی کتابیں لکھیں۔ جن میں سے تین کتابیں میں تین چار سال پہلے امریکہ سے خرید لایا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں۔

Life After Life	(1)
The Light Beyond	(2)
Reflection on Life After Life	(3)

اور جو کچھ میں آگے بیان کر رہا ہوں وہ ان تین کتابوں سے مخوذ ہے، ان تینوں کتابوں میں صرف ان لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جنہیں ہماری کی انتہائی شدت مردہ (Clinically Dead) قرار دیدیا گیا۔ لیکن ایسی حالت میں آخری چارہ کار کے طور پر ڈاکٹر صاحب اُن دل کی ماش اور مصنوعی تنفس دلانے کی جو کوششیں کرتے ہیں وہ ان پر کامیابی سے آزمائی گئیں، اور وہ واپس ہوش میں آگئے۔ ڈاکٹر مودی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انترویو کیا وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور مختلف جمیعوں کے باشندے تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنی نظر آنے والی کیفیت کو اپنے طریقے پر بیان کیا، کسی نے کوئی بات زیادہ کھی، کسی نے کوئی بات کم بتائی، لیکن جمیعت بھروسی جو مشترک باتیں

کی دلیل سمجھ کر واپس آگئے اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے موت کے دروازے پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ کتاب کا نام ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی (Raymond A Moody) کی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر مودی اصل فلسفے کے پی اسچ ڈی ہیں، پھر انہوں نے میرے یکل ساتھ کے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے، بالخصوص نفسیات اور فلسفہ ادویہ سے انہیں خصوصی شفقت ہے، ان صاحب کو سب سے پہلے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر جارج رچی کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ڈبل نیونیا کے دوران ایک مرحلہ پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے اور پھر ڈاکٹروں نے مصنوعی تنفس وغیرہ آخری طریقے (Resuscitation) استعمال کئے جس کے بعد وہ واپس آئے اور صحمند ہو گئے، صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب انہیں مردہ سمجھ لیا گیا تھا اس وقت انہوں نے کچھ عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا، ڈاکٹر مودی کو اس قسم کے چند مزید واقعات علم میں آئے تو انہوں نے ابھیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی جگتو اور ان سے ملاقاتیں شروع کیں، یہاں تک کہ تقریباً ذی ہد سو افراد سے انترویو کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ کتاب جب شائع ہوئی تو اس کی تمیز لاکھ کا پیال ایک ہی سال میں فروخت ہو گیں، ڈاکٹر مودی نے اس کے بعد بھی اس مسئلے کی

اپنی زندگی کا جائزہ لو، اس کا یہ کہنا مادرائے الفاظ (Nonverbal) ہوتا ہے اور پھر وہ خود اس کے سامنے تیزی سے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات لا کر ان کا نظارہ کرتا ہے ایک مرحلے پر اسے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیوی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے درمیان ایک سرحد ہے، اس سرحد کے قریب پہنچ کر اسے پہنچتا ہے کہ اسے اب واپس جانا ہے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کے بعد کسی انجام نے طریقے پر وہ واپس اسی جسم میں لوٹ آتا ہے جو وہ چار پائی پر چھوڑ کر گیا تھا۔ صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنی یہ کیفیت دوسروں کو بتانا چاہتا ہے لیکن اول تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے اسے تمام انسانی الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں دوسرے اگر وہ لوگوں کو یہ بتائے ہوں تو وہ مذاق کرنے لگتے ہیں، لہذا وہ خاموش رہتا ہے۔

ڈاکٹر مودی نے ڈیڑھ سو افراد کے ائمروں کا یہ خلاصہ میان کرتے ہوئے ساتھ ہنی یہ وضاحت بھی کی ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیڑھ سو افراد میں سے ہر شخص نے پوری کمائی اسی ترتیب کے ساتھ میان کی، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے یہ پوری کمائی میان کی، کسی نے اس کے کچھ حصے بتائے، کچھ چھوڑ دیئے، کسی کی ترتیب کچھ تھی، کسی کی کچھ اور بلکہ اس بات کو میان کرنے کے لئے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات اختیار

(Common Elements) ان میں سے تقریباً ہر شخص کے بیان میں موجود تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

”ایک شخص مرنے کے قریب ہے اس کی جسمانی حالت ایسی حد پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اچانک اسے ایک تکلیف دہ سا شور سنائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا میز فارمی سے ایک طویل اور اندھیری سرگم میں جا رہا ہے اس کے بعد اچانک وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آگیا ہے، وہ اپنے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماشائی بن کر دیکھتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کی نمایاں جگہ پر کھڑا ہے، اور اس کا جسم جوں کا توں چارپائی پر ہے اور اس کے ڈاکٹر نے جسم پر بھٹکے ہوئے اس کے دل کی مالش کر رہے ہیں یا مصنوعی تنفس دینے کی کوشش میں مصروف ہیں، تھوڑی دیر میں وہ اپنے جو اس جا کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نئے حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے جو وہ چھوڑ آیا ہے، اس کی کیفیات بھی مختلف ہیں، اور اس کو حاصل قوتوں میں بھی کچھ اور طرح کی ہیں، اسی حالت میں کچھ دیر بعد اسے اپنے عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو مر چکے تھے، اور پھر اسے ایک نورانی وجود Boeing of Light نظر آتا ہے جو اس سے یہ کہتا ہے کہ تم

کیا عث ہوں گے۔

ایک سرگن سے گزرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیا
ہے کہ میں ایک تاریک خلائیں تیر رہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ یہ ایک گھٹاؤپ
اندھیرا تھا اور کسی نے اسے اندر ہیرے غار کا نام دیا ہے۔ میں اس میں نیچے
بیٹھا جا رہا تھا کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیا ہے کسی نے کہا ہے کہ وہ
ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اندر ہیرے میں اوپر انتہا چلا گیا۔
گھر یہ بات سب نے کہی ہے کہ یہ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے
ہو کافی ہیں؛ جس مشاہدے کو تمام افراد نے یوں حرمت کے ساتھ بیان کیا ہے
وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو گے۔ ایک خاتون جو دل کے دورے کی
وجہ سے ہسپتال میں داخل تھیں، بیان کرتی ہیں کہ اچانک مجھے ایسا محسوس
ہوا کہ میرا دل دھڑکنا نہ ہو گیا ہے اور میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکل
رہی ہوں، پہلے میں فرش پر پکجی، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، یہاں تک کہ
میں ایک کاغذ کے پر زے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جا گئی، وہاں سے میں
صاف دیکھ رہی تھی کہ میرا جسم پیچے بستر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر اور نر سیں
اس پر اپنی آخری تدبریں آزم رہے ہیں، ایک نر نے کہا "اوہ خدیا! یہ تو
گئی" اور دوسری نر نے میرے جسم کے منہ سے منڈا کر اسے سانس
دلانے کی کوشش کی، مجھے اس نر کی گدی پیچھے سے نظر آ رہی تھی اور

کیں۔ اور یہ بات تقریباً ہر شخص نے کہی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، اسے
لفظوں میں تعبیر کرنا ہمارے لئے سخت مشکل ہے۔

"ایک خاتون نے اپنی اس مشکل کو قدرے فلسفیانہ زبان میں اس
طرح تعبیر کیا"

"میں جب آپ کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی ہوں تو میرا ایک
حقیقی مشکل یہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں وہ سب سے ابعادی
(Three dimensional) ہیں (یعنی طول و عرض، عمق کے تصورات
میں متعدد ہیں) میں نے اب تک جیو میٹری میں کی پڑھاتھا کہ دنیا میں صرف
تین بعد ہیں، لیکن جو کچھ میں نے (مردہ قرار دیئے جانے کے بعد) دیکھا اس
سے پہلے چلا کر یہاں تین سے زیادہ ابعاد ہیں۔ اسی لئے اس کیفیت کو نحیک
نحیک بتانا میرے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ مجھے اپنے ان مشاہدات کو سہ
ابعادی الفاظ میں بیان کرنا پڑ رہا ہے۔"

بہر کیف! ان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی ہیں ان میں سے
چند بطور خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تاریک سرگن، دوسرے جسم سے
علیحدگی، تیسرا مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا، پوتھے ایک
نورانی وجود پا نچوں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کا نظارہ۔ ان تمام
باتوں کی جو تفصیل مختلف افراد نے بیان کی ہے اس کے چداقتیات دلچسپی

آتے تھے وہ سب آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح پورست معلوم ہوتے تھے جیسے زنجروں میں بند ہوا کوئی گروہ ہو، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے پاؤں کبھی دیکھے ہوں، مجھے معلوم نہیں دیا کیا تھے، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے وہ بالکل مست تھے اور میا لے نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گستاخ ہوئے خلا میں چکر لگا رہے ہیں اور انہیں پہ نہیں کہ انہیں کمال جانا ہے..... وہ ایک طرف کو چنان شروع کرتے پھر اسیں کو مز جاتے، چند قدم چلتے، پھر انہیں کو مز جاتے اور کسی بھی طرف جا کر کرتے پکھا رہتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کی علاش میں ہیں مگر کس چیز کی علاش میں؟ مجھے معلوم نہیں..... ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود اپنے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کون اور کیا ہیں؟ ان کی کوئی شناخت نہیں تھی..... بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہ نہیں سکتا.....” (Reflection- P&19)

ڈاکٹر مودی نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا ان کی اکثریت نے اپنے اس تجربے کے دوران ایک نورانی وجود Benig of light کا بھی ضرور ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا بیان ہے کہ اسے دیکھ کر یہ بات تو یقینی علوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی وجود ہے لیکن اس کا کوئی جسم نہیں تھا وہ سراسر روشنی ہی روشنی تھی، اہم ایں وہ روشنی ہلکی معلوم ہوتی لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی

اس کے بال مجھے اب تک یاد ہیں، پھر وہ ایک مشین لائے جس نے میرے سینے کو جھکنکے دیئے اور میں اپنے جسم کو اچھتا دیکھتی رہی، جسم سے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہم ایسے نئے وجود میں آگئے تھے جو جسم نہیں تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسری قسم کا جسم تھا جو دوسروں کو دیکھے سکتا تھا مگر دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ ان کی آواز نہ سن سکے اور ہم اس بے وزنی کے عالم میں نہ صرف فضامیں تیرتے رہے بلکہ اگر ہم نے کسی چیز کو چھوٹے کی کوشش کی تو ہمارا جو دوسرے کے آپار ہو گیا، بہت سوں نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ساکت ہو گیا تھا اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔

اسی حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوئے عزیز روں دوستوں کو بھی دیکھا اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بہت سی پچھکتی ہوئی روحوں کا مشاہدہ کیا، یہ پچھکتی ہوئی روں میں انسانی ٹکل سے ملتی جلتی تھیں، مگر انسانی صورت سے کچھ مختلف بھی تھیں ایک صاحب نے ان کی کچھ تفصیل اس طرح بتائی۔

”ان کا سر یخی کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ بہت غلکن اور افسردہ نظر

ان شاء اللہ اگلے بختے بیان کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ان واقعات کے بارے میں اپنا تبصرہ بھی۔

(2)

چھپے بختے میں نے امریکہ کے ڈاکٹر یمنڈاے مودی کی کتابوں کے حوالے سے ان لوگوں کے کچھ تجربات و مشاہدات ذکر کئے تھے جو کسی شدید مباری یا حادثے کے نتیجے میں موت کے دروازے تک پہنچ کر واپس آگئے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک ہماری سرگرمی سے گزرنے کے بعد انہیں ایک عجیب و غریب نورانی وجود نظر آیا، اس نے ہم سے ہماری چھپی زندگی کے بارے میں سوال کیا اور پھر اس نے پہلی بھر میں خود ہی ہمیں ہماری زندگی کے سارے واقعات ایک ایک کر کے دکھادیئے۔

مثالًا ایک خاتون اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں۔
”جب مجھے وہ نورانی وجود نظر آیا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیا ہے؟ اور اس سوال کے ساتھ ساتھ چھپی زندگی کے نقادرے مجھے نظر آئے شروع

جاناتی لیکن اپنی غیر معمولی تہابی کے باوجود اس سے آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی تھیں، بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس نورانی وجود نے ان سے کہا کہ ”تم اپنی زندگی کا جائزہ لو“، بعض نے اس کی کچھ اور باتیں بھی نقل کیں، لیکن یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو کچھ کہا وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں کہا یعنی اس کے کوئی لفظ انہیں سنائی نہیں دیتے، بلکہ یہ بالکل نرالہ انداز اطمینان تھا جس کے ذریعے اس کی باتیں خود خود ہمارے خیالات میں منتقل ہو رہی تھیں۔ جن لوگوں نے اس سے جسمی کی حالت میں ایک ”نورانی وجود“ کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کہنا یہ ہے کہ اس ”نورانی وجود“ نے ہم سے ہماری سائیں زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیا، سوال کے الفاظ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کئے ہیں، مگر مفہوم سب کا تقریباً یہ ہے کہ ”تمہارے پاس اپنی سائیں زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیا چیز ہے۔“

What do you have to show me

that you have done with your life

پھر ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس ”نورانی وجود“ نے ہماری سائیں زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے ہمیں دکھانے شروع کیئے، یہ واقعات کس طرح دکھائے گئے؟ اس کی تفصیل اور زیادہ دلچسپ ہے، لیکن وہ تین

ہو گئے، میں سخت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اچانک ایسا لگا کہ میں اپنے جہن کے بالکل ابتدائی دور میں پہنچ گئی ہوں اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہر سال کا نظارہ ایک ساتھ میرے سامنے آگیا..... میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں اور اپنے کمرے کے قریب ایک چشمے کے پاس کھیل رہی ہوں، اس دور میں بہت سے واقعات جو میری بہن کے ساتھ پیش آئے تھے، مجھے نظر آئے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات دیکھئے، میں اپنے آپ کو کندر گارش میں نظر آئی، میں نے وہ کھلوٹا دیکھا جو مجھے بہت پسند تھا، میں نے اسے توڑ دیا تھا اور دیر تک روئی رہی تھی، پھر میں گرلاسکاؤٹش میں شامل ہو گئی اور گرامر اسکول کے واقعات میرے سامنے آنے لگے..... اسی طرح میں جو نیزہ بائی اسکول سینئر بائی اسکول اور گریجویشن کے مراحل سے گذرتی رہی یہاں تک کہ موجودہ دور تک پہنچ گئی۔

تمام واقعات میرے سامنے اسی ترتیب سے آرہے تھے جس ترتیب سے وہ واقع ہوئے اور یہ سب واقعات انتہائی واضح نظر آرہے تھے، مناظر میں اس طرح تھے جیسے تم ذرا بہر نکلو اور انہیں دیکھ لو، اب واقعات کامل طور پر سه بعدی (Three dimensional) تھے اور رنگ بھی نظر آرہے تھے، ان میں حرکت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلوٹا تو زتے

دیکھا تو میں اس کی تمام حرکتیں دیکھ سکتی تھی۔

جب مجھے یہ مناظر نظر آرہے تھے اس وقت میں اس فورانی وجود کو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ یہ کہتے ہی نظروں سے او جمل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے؟ اس کے باوجود میری احساس یہ تھا کہ وہ وہاں موجود ہے اور وہی یہ مناظر دکھار ہا ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ خود یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں نے اپنی یہ زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ پہلے ہی سے یہ ساری باتیں جانتا تھا، لیکن یہ واقعات میرے سامنے لا کر یہ چاہتا تھا کہ میں انہیں یاد کروں، یہ پورا قصہ ہی بڑا عجیب تھا، میں وہاں موجود تھی، میں واقعتاً یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی اور یہ سارے مناظر انتہائی تجزی سے میرے سامنے آرہے تھے مگر تجزی کے باوجود وہ اتنے آہستہ ضرور تھے کہ ان کا خوٹلی اور آک کر سکتی تھی، پھر بھی وقت کا دورانیہ اتنا زیادہ نہ تھا، مجھے یقین نہیں آتا، میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک روشنی آئی اور چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پانچ منٹ سے بھی کم میں ہو گیا، البتہ غالباً تیس سینٹنڈ سے زیادہ وقت لگا ہو گا، لیکن میں آپ کو نجیک نہیں تھا، تھا یہ نہیں سکتی۔“

ایک اور صاحب نے اپنے اس مشاہدے کا ذکر اس طرح کیا ”جب میں اس طویل اندھیری جگ سے گزر گیا تو اس سرگم کے آخری سرے پر میرے جہن کے تمام خیالات، بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں

کسی نے اسے دروازے سے تعبیر کیا، کسی نے کہا کہ وہ اس طرح کی ایک بڑا ہے تھی جو کھیت کے گرد لگادی جاتی ہے اور کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایک لکیر تھی۔

ڈاکٹر مودی کی یہ کتاب (Life After Life) سب سے پہلے ۲۰۱۶ء میں شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے آنھ سال تک تقریباً ڈیڑھ سو افراد سے انٹرویو کے متانج ہیان کئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ان کی یہ ریسرچ نہ پوری طرح سائنسیک ثبوت کھلانے کی مستحق ہے، نہ وہ اس قسم کے واقعات کے ذمہ دارانہ اعداد و شمار دینے کی پوزیشن میں ہیں بلکہ ان کی اس کتاب نے دوسرے بہت سے ڈاکٹروں کو اس موضوع کی طرف متوجہ کیا اور ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس قسم کے مشاہدات کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر مزید کتابیں لکھیں، ان میں سے ایک کتاب ڈاکٹر میلوون مورس (Melvin Morse) نے لکھی (Closer to the Light) کے نام سے شائع ہوئی ہے یہ صاحب چوں کے امراض کے اپیشٹ لکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کی جتنوں شروع کی کہ کیا اس قسم کے مشاہدات چوں کو بھی پیش آتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ بالغ لوگ اپنے ذہنی تصورات سے مغلوب ہو کر کچھ نظارے دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس قسم کے تصورات سے خال الذہن ہوتے ہیں اس لئے اگر

موجود نظر آئی جو میرے بالکل سامنے روشنی کی طرح چمک رہی تھی، یہ بالکل تصویریوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ خیالات سے زیادہ ملتی تھی، میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ بات ٹھے ہے کہ میری ساری زندگی وہاں موجود تھی وہ سب واقعات ایک ساتھ وہاں نظر آ رہے تھے میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئے اور دوسرے وقت دوسری، بلکہ ہر چیز یہیک وقت نظر آ رہی تھی۔ میں وہ چھوٹے چھوٹے ہڈے کام بھی دیکھ سکتا تھا جو میں نے کئے تھے اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ کئے ہوتے اور کاش میں واپس جا کر ان کا میوں کو منسوخ (undo) کر سکتا۔“

(Life After Life p 69)

جن لوگوں نے اپنے یہ مشاہدات ڈاکٹر مودی کے سامنے بیان کئے ان میں سے بعض نے یہ بھی بتایا کہ اس مشاہدے کے آخری مرحلے پر انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جیسے کوئی رکاوٹ ہو، اور یا تو کسی نے کہا یا خود خود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی ان کے لئے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا وقت نہیں آیا اور اسی کے معا بعد وہ دوبار اپنے جسم میں واپس آگئے اور معمول کی دنیا کی طرف پلت آئے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ روشن پانی کے ایک جسم کی سی تھی، کسی نے کہا کہ یہ ایک نیا لے رنگ کی دھنڈ تھی،

کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن اس نئی تحقیق کے دوران کئی افراد نے ایک "روشنیوں کے خوبصورت شر" کا ذکر کیا، بعض نے یہ بے خوبصورت باغات دیکھے اور اپنے میان میں انہیں جنت سے تعبیر کیا بعض افراد نے صاف صاف دوزخ کے مناظر بھی بیان کئے ایک صاحب نے بتایا کہ میں یقینے پر چلتا گیا یقینے اندھیرا تھا لوگ بری طرح یقین چلا رہے تھے، وہاں آگ تھی، "وہ لوگ مجھ سے پینے کے لئے پانی مانگ رہے تھے" انتزدیو کرنے والے نے پوچھا کہ "کیا آپ کسی سرگ کے ذریعے یقینے پر چلتے تھے؟" انہوں نے جواب دیا: "نہیں، وہ سرگ سے زیادہ بڑی چیز تھی، میں تیرتا ہوا یقینے جا رہا تھا" پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آدمی یقین پکار کر رہے تھے؟ اور ان کے جسم پر کپڑے تھے یا نہیں؟" انہوں نے جواب دیا "کہ وہ اتنے تھے کہ آپ انہیں شدرا نہیں کر سکتے میرے خیال میں ایک لمین ضرور ہوں گے اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔"

(The Light Beyond - 26-27)

ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مغربی ملکوں میں پراسراریت کا شوق ایک جنون (Craze) کی حد تک بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کتابیں اسی جنون کا شاخہ ہو سکتی ہیں اگرچہ اس احتمال سے بالکلیہ صرف نظر نہیں کیا جاسکتا لیکن ۱۹۷۵ء کے بعد سے جس طرح

ان میں بھی ان مشاہدات کا ثبوت ملے تو ان نظاروں کی واقعی حیثیت مزید پختہ ہو سکتی ہے چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سے چوں نے بھی اس قسم کے مشاہدات کے ہیں اور انہوں نے خود ان چوں سے ملاقات کر کے ان کے بیانات کو مختلف ذرائع سے ثابت کیا ہے اور ان کا تاثر ہے کہ ان چوں نے جمیٹ نہیں بولا بلکہ واقعہ انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ ۲۳۶ / صفات پر مشتمل یہ کتاب اسی قسم کے بیانات اور ان کے سائنسی تجزیے پر مشتمل ہے۔

ایک اور صاحب پالسٹر جارج گلپ

ایے لوگوں کا سروے کیا جو اس قسم کے مشاہدات سے گذر چکے تھے، ان کے سروے کا چوتھا دینے والا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کی کل آبادی کے تقریباً پانچ فیصد افراد موت کے قریب پنج کریساں قسم کے مشاہدات سے گذر چکے ہیں..... ڈاکٹر مودی نے بھی اپنی تحقیق مزید جاری رکھی اور اپنی دوسری کتاب (The Light Beyond) میں انہوں نے لکھا ہے کہ پسلے ذریعہ سو افراد کے بعد انہوں نے مزید ایک ہزار افراد سے انتزدیو کیا اور اس کے نتائج میں بھی کم و بیش وہی تھے البتہ اس دوران بعض افراد نے کچھ نی باقی بھی بتائیں مثلاً پسلے ذریعہ سو افراد میں سے کسی نے صراحتاً جنت یا دوزخ قسم

(Hallucinations) نہیں تھے۔

انہوں نے اس اختہل پر بھی گفتگو کی ہے کہ ان لوگوں کے مذہبی تصورات ان کے ذہن پر اس طرح سلطنتے کہ بے ہوشی یا خواب کے عالم میں وہی تصورات ایک محسوس ولائقہ کی ٹھکل میں ان کے سامنے آگئے ڈاکٹر مودی نے اس اختہل کو بھی بحید قرار دیا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو مذہب کے قائل نہ تھے یا اس سے اتنے بیگانے تھے کہ ان پر مذہبی تصورات کی کوئی ایسی چھاپ غالب نہیں آئتی تھی پھر یہ مشاہدات کیا تھے؟ ان سے کیا نتیجہ لکھا ہے؟ لوراں بدارے میں قرآن و سنت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس موضوع پر انشاء اللہ آمیدہ بخت پکھ عرض کروں گا۔

مختلف سمجھیدہ حلقوں نے ان واقعات کا نوٹس لیا ہے اور بیان پر جس طرح ریسرچ کی گئی ہے اس کے پیش نظر یہ اختہل خاصاً بحید ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مودی نے اس اختہل پر بھی خاصی تفصیل سے حد کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے اثر دیو کیا، وہ بے بیناد گپ لگانے کے شوقین تو نہیں تھے لیکن بالآخر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اتنے سارے آدمیوں کا جو مختلف علاقوں اور مختلف طبقہ ہائے خیال سے تعلق رکھتے ہیں ایک یہ قسم کی گپ لگانا انتہائی بعد از قیاس ہے۔

بعض ڈاکٹروں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ بعض مشیات اور دواؤں کے استعمال سے بھی اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو ماحول سے الگ محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات اس کا دماغ جھوٹے تصورات کو مرئی ٹھکل دے دیتا ہے ایسے میں اسے بعض بد فریب (Hallucinations) نکارے نظر آنے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان افراد کو اسی قسم کی کسی کیفیت سے ساہنہ پیش آیا ہو لیکن ڈاکٹر مودی نے دونوں قسم کی کیفیات کا الگ الگ تجزیہ کرنے کے بعد یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے اثر دیو کیا ظاہر ان کے مشاہدات ان پر فریب نکاروں سے مختلف تھے ڈاکٹر میلوں مورس نے اس اختہل پر زیادہ سائنسی انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتمی نتیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات

افراد کو یہک وقت جھلکان کے لئے آسان نہیں..... تو بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے موت کے بعد پیش آئے والے واقعات کا مشاہد نہیں کیا، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ از خود ر فلکی کے عالم میں انہیں اس جہاں کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں جس کا دروازہ موت ہے۔

میدی یکل سائنس چونکہ صرف ان چیزوں پر یقین رکھتی ہے جو آنکھوں سے نظر آجائیں یادو سرے حواس کے ذریعے محسوس ہو جائیں اس لئے ابھی تک وہ انسانی جسم میں "روح نام" کی کسی چیز کو دریافت نہیں کر سکی اور نہ "روح" کی حقیقت تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ (اور شاید روح کی کامل حقیقت اسے جیتے جی کبھی معلوم نہ ہو سکے) یہ کیونکہ قرآن کریم نے "روح" کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمادیا ہے کہ "روح" میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے (لیکن قرآن و سنت سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے مفہوم طبق کا نام ہے اور موت اس تعلق کے ثوٹ جانے کا۔ اس سلسلے میں یہ لکھتے یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہم اپنی بول چال میں موت کے لئے جو "وفات" کا لفظ استعمال کرتے ہے وہ قرآن کریم کے ایک لفظ "توفی" سے ماخوذ ہے قرآن کریم سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ "موت" کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، عربی

(3)

چھپلی دو قسطوں میں میں نے ان لوگوں کے بیانات کا خلاصہ ذکر کیا تھا جو موت کے دروازے پر پہنچ کر واپس آگئے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، ایک تاریک سرگم سے گزرے، ایک نورانی وجود کا مشاہد کیا اور پھر اس نورانی وجود نے ان کے ساتھ ان کی سابقہ زندگی کا پورا نقشہ پیش کر دیا، یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں کو موت نہیں آتی تھی اگر موت آئتی ہوتی تو یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہ آتے، خود اکثر مودی جہنوں نے ان لوگوں کے بیانات قلبند کئے وہ بھی بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے موت نہیں دیکھی، البتہ موت کے نزدیک پہنچ کر کچھ عجیب و غریب مناظر ضرور دیکھئے، چنانچہ ان مشاہدات کے لئے انہوں نے جو اصطلاح واضح کی ہے وہ ہے (Near-Death Experience) (قریب الموت تجربات) جسے مخفف کر کے وہ N.D.E سے تجیر کرتے ہیں اور یہی اصطلاح بعد کے مصنیوں نے بھی اپنائی ہے لہذا اگر ان لوگوں کے بیانات کو جو مان لیا جائے اور ڈاکٹر مودی کی حقیقت رائے یہ ہے کہ اتنے بہت سے

کے لئے قرآن کریم نے ان کے اندر ”روح پھونکنے“ سے تعبیر فرمایا ہے۔

قرآن کریم کے ان ارشادات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ زندگی نام ہے جسم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا، جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنا مضبوط ہو گا زندگی کے آثار اتنے ہی زیادہ واضح اور نمایاں ہوں گے اور یہ تعلق جتنا کمزور ہوتا جائے گا زندگی کے آثار اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے ہیدری کی حالت میں جسم اور روح کا یہ تعلق نہیں ماضی میں اس لئے اس حالت میں زندگی اپنی بھرپور علامات لور کھل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے عمل کے لئے چوکس اور تیار ہوتے ہیں انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعمال کرتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوتی لیکن نیند کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق قدرے کمزور پڑ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سونے کی حالت میں انسان پر زندگی کی تمام علامتوں کا ظہور نہیں ہوتا وہ اپنے گرد پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں وہ اپنے اختیار سے اپنے اعضا کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ اس وقت معمول کے مطابق سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے لیکن اس حالت میں بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر وارد ہونے والے واقعات

زبان میں موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے تقریباً چوتھیس الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن ”وفاة“ یا ” توفی“ کا اس معنی میں کوئی وجود نہ تھا۔ قرآن کریم نے پہلی بار یہ لفظ موت کے لئے استعمال کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جالیت کے عربوں نے موت کے لئے جو الفاظ وضع کے تھے کہ وہ سب ان کے اس عقیدے پر بنی تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے قرآن کریم نے ” توفی“ کا لفظ استعمال کر کے لطیف انداز میں ان کے اس عقیدے کی تردید کی، ” توفی“ کے معنی یہں کسی چیز کو پورا پورا اوصول کر لینا اور موت کے لئے اس لفظ کو استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی روح کو اس کے جسم سے میسحہ کر کے واپس بلا لیا جاتا ہے اسی حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ”سورہ زمر“ میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ انسانوں کی موت کے وقت ان کی رو جیسی قبض کر لیتا ہے اور جو لوگ مرے نہیں ہوتے ان کی رو جیسی ان کی نیند کی حالت میں واپس لے لیتا ہے وہ پھر جن کی موت کا فعلہ کر لیتا ہے ان کی رو جیسی روک لیتا ہے اور دوسرا روحوں کو ایک صحین وقت تک چھوڑ دیتا ہے، پہلے اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی ثنا نیاں ہیں جو غور و غفران کرتے ہیں۔“ (سورہ الزمر - ۳۲) دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کرنے

کا احساس باقی رہتا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے جسم میں سوئی چجودے تو اس کی تکلیف محسوس کر کے وہیدار ہو جاتا ہے۔

ذاکر صاحب ان آخری چارہ کار کے طور پر تنفس یادل کی دھڑکن کو حال کرتے کے لئے کچھ مصنوعی طریقے آزماتے ہیں۔ بعض افراد پر یہ طریقے کامیاب ہو جاتے ہیں اور مریض اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اس کے واپس آجانے ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ بھی اُنکے راستیں تھا اور اس کی روح بالکل یہ جسم سے جدا نہیں ہوئی تھی یہ زندگی کا کنز در ترین درجے ہے جس میں روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی پیشتر علامات اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں البتہ دل کی دھڑکن اور سانس کی آمد و رفت باقی رہتی ہے جس سے اس کے زندہ ہونے کا پتہ چلا ہے؟

لہذا سکتے کی یہ حالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی رہ جاتا ہے اور وہ جسم کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے، اس حالت میں اگر کسی انسان کا اور اُنکی روح کے سفر میں شریک ہو جائے اور اسے مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آجائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس قسم کے لوگ نے عالم بالا کے کچھ مناظر کا مشاہدہ کیا جن لوگوں کے میانات میں نے یہچے ذاکر مودی کے حوالے سے نقل کئے ہیں اگر یہ حلیم کر لیا جائے کہ وہ جھوٹ اور دھوکے عمل دخل سے خالی ہیں تو ان کے یہ مشاہدات بھی اسی نوعیت کے

تصدیق کے لئے اس قسم کے میانات کے محتاج نہیں، لیکن ان مشاہدات کی بعض باتوں کی تائید قرآن و سنت کے بیان کردہ حقائق سے ضرور ہوتی ہے مثلاً ان تمام میانات کی یہ قدر مشترک قرآن و سنت سے کسی تک دشہ کے بغیر ثابت ہے کہ زندگی صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں جو ہمیں اپنے کردو پیش میں پھیلی نظر آتی ہے بلکہ دنیا کے اس پار ایک عالم اور ہے جس کی کیفیات کا تھیک تھیک اور اک ہم باوری کشافتوں کی قید میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے وہاں پیش آنے والے واقعات زمان و مکان کے ان معروف یادوں سے بالاتر ہیں جن کے ہم دنیوی زندگی میں عادی ہو چکے ہیں، یہاں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک کام جسے انجام دینے کے لئے سالہ سال در کار ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ میں کیسے انجام پاسکتا ہے، لیکن وہاں پیش آنے والے واقعات وقت کی اس کی قید سے آزاد ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے "تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہاری کتنی کے لحاظ سے ایک ہزار سال کے درمیں ہے" (سورۃ الحج ۷-۲۳) یہ عالم کیا ہے؟ اس کے قاتھے کیا ہیں؟ اور اس تک حچکنے کے لئے کس قسم کی تیاری ضروری ہے؟ یہی باتیں بتانے کے لئے انبیاء تشریف لاتے ہیں کیونکہ یہ باتیں ہم صرف اپنے حواس اور اپنی حقول سے معلوم نہیں کر سکتے، آخری دور میں یہ باتیں ہمیں حضور نبی کریم ﷺ نے "اسلامی شریعت" کے ذریعے بتا دی ہیں اور جسے اس عالم کے لئے

ہو سکتے ہیں لیکن ان کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین رکھنی ضروری ہیں۔

(۱) جن لوگوں کو یہ مناظر نظر آئے، انہیں ابھی موت نہیں آئی تھی، لہذا جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ دوسرے جہاں کی جھلکیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں۔

(۲) جس حالت میں ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے، وہ زندگی ہی کی ایک حالت تھی اور کم از کم دماغ کے مخفی گوشوں میں ابھی زندگی باقی تھی لہذا ان ظفاروں میں دماغ کے تصرف کا امکان بعد از قیاس نہیں۔

(۳) جن لوگوں نے اپنے یہ مشاہدات بیان کئے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان مشاہدات کی تفصیل وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، پھر بھی انہوں نے یہ کیفیات بیان کرنے کے لئے محدود لفظوں ہی کا سارا الیا، چنانچہ یہ بات اب بھی مخلوک ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے ان کیفیات کو بیان کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ نیز انہیں کوئی بات کتنی صحت کے ساتھ یاد رہی۔ ان وجوہ سے ان مشاہدات کی تمام تفصیلات پر توہروس انہیں کیا جاسکتا، نہ انہیں بعد الموت کے بارے میں کسی عقیدے کی بجاوہ ملیا جاسکتا ہے، بعد الموت کے جتنے حقائق ہمیں معلوم ہونے ضروری ہیں وہ وحی الٰہی کے بے غبار استے سے آنحضرت ﷺ نے ہمیں پہنچا دیئے ہیں اور وہ اپنی

جسم کا ست نہایت تیزی کے ساتھ پاؤں کی طرف سے شروع ہو کر سر کی طرف سے نکل گیا اور میں مکمل روشنی کا ایک بہکا پھلا سافر دن گیا، میں اس نور کے آدمی کی رفاقت میں پر سکون تھا۔ میں نے تمام دارو اور پھر شدید محمد اشت کے کرے کا جائزہ لیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا یہ سب کچھ پک جھکنے میں ہوا، میں روشنی کے آدمی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے قریب ہی رہا اور دیکھتا رہا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے دائیں جانب نور کا ایک سرخ ہالہ آنا فانا میں بن چکا تھا۔ میں پر سکون حالت میں سرگم کے اس بالد کی روشنیوں سے لطف اندوں ہو رہا تھا جیسے میں اپنے آپ کو ایک اور دنیا کا فرد محسوس کرنے لگا تھا اپنے جسم سے کئے جانے والے طبی عمل سے لا تعلق تھا، اسپریال کے مختلف حصوں سے توہاتی کی لریں اور جاری تھیں مجھے تیار گیا تھا کہ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں جب مجھے ٹیکلی پیشی سے پیغام ملا کہ تمہیں واپس جانا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا مگر اس کے علاوہ کوئی چار اکار نہیں تھا۔ میں ہوا میں تیرتا ہوا اپنے خالی جسم میں حلول کر گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مااضی میں بھی وزن کو اٹھائے ہوئے پھر تارہا ہوں اور آئندہ بھی وقت میں تک اس بوجھ کو گھستانا ہے پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں دنیا میں واپس لوٹا یا جا چکا تھا۔

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل سائل کے بارے میں۔

محیک ٹھیک تیدی کرنی ہو، وہ اس شریعت کو سیکھ لے، اس پر اس عالم کے حقائق بھی واضح ہو جائیں گے اور وہاں تک پہنچنے کا صحیح طریقہ بھی آجائے گا۔

﴿ختم شده﴾

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ روز نامہ جنگ کراچی مورخہ 28-3-1984ء میں ڈاکٹر سید احمد علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ان پر دل کا دورہ 23-3-1984ء کو پڑا وہ اس دورے کی طویل تفصیل تحریر فرماتے ہیں اور اس تفصیل میں تحریر فرمایا کہ میں 20 منٹ تک مردہ رہا اور اس کے بعد مجھے مردہ قرار دے دیا گیا۔ مرنے سے پہلے میں نے نور کا ہما ہوا ایک فرد اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس کے جسم سے چھوتے ہی میرے اپنے

کے آثار اتنے ہی زیادہ واضح اور نمایا ہوں گے اور یہ تعلق جتنا کمزور ہوتا جائے گا زندگی کے آثار اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔

بیداری کی حالت میں جسم اور روح کا یہ تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے اس لئے اس حالت میں زندگی اپنی بھرپور علامات اور کمل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے عمل کے لئے چوکس اور تیار ہوتے ہیں، انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعمال کرتا ہے اور اس کے سوچنے اور سمجھنے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوتی، لیکن نیند کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق قدرے کمزور پڑ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سونے کی حالت میں زندگی کی تمام علامتوں کا ظہور نہیں ہوتا وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں وہ اپنے اختیار سے اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کر سکتا، اس وقت معمول کے مطابق سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے لیکن اس حالت میں بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جسم وارد ہونے والے واقعات کا احساس باقی رہتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے جس میں سوئی چجمودے تو اس کی تکلیف محسوس کر کے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔

نیند سے بھی آگے ایک اور کیفیت ہے ہوشی کی ہے اس کیفیت

- (۱) کیا کوئی شخص 20 منٹ مردہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔
- (۲) کیا یہ ممکن ہے کہ مرنے والا کسی نورانی شخص کے ساتھ گوم کیا ہے۔
- (۳) کیا کسی مردیوالے کی روح جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے۔

سائل حافظ نور محمد

الجواب حامدًا ومصلياً

مذکورہ شخص نے جن مناظرو و واقعات کا مشاہدہ کیا ہے وہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں ہیں، یہ کوئی نہ اگر موت آئی ہوتی تو یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہ آتے، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سکتہ کی حالت میں از خودر فلکی کے عالم میں موت کے نزدیک پہنچ کر اس جہاں کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں۔

اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ زندگی نام ہے جسم کے ساتھ روح کے توی تعلق کا، جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنا مضبوط ہو گا زندگی

آتا ہے اور اس کے واپس آجائے ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ابھی تک مر انسیں تھا اور اس کی روح بالکل یہ جسم سے جدا نہیں ہوتی، یہ زندگی کا کنز ور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بہت معمولی سارہ جاتا ہے پھر روح کا تعلق جسم سے جتنا کنز ور ہوتا جاتا ہے اتنی ہی وہ جسم کے قید سے آزاد ہوتی ہے، نیند کی حالت میں یہ آزادی کم ہے بے ہوشی کی حالت میں اس سے زیادہ اور سکتہ کی حالت میں اس سے بھی زیادہ، لذ اسکتہ کی یہ حالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی رہ جاتا ہے اور جسم کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے۔ اس حالت میں اگر کسی انسان کا اور اک اپنی روح کے سفر میں شریک ہو جائے اور اس مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آجائے تو کچھ بحید از قیاس نہیں، اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس قسم کے لوگوں نے عالم بالا کے کچھ مناظر کا مشاہدہ کیا لیکن اس بارے میں چدبا تمیذ ہن نشین رکھنی ضروری ہیں۔

(1) نمکورہ شخص نے اور ان کے علاوہ جن لوگوں کو یہ مناظر نظر آئے ان میں ابھی تک موت نہیں آئی تھی اللہ اجر کچھ انہوں نے دیکھا وہ دوسرے جہاں کی جھلکیاں تو ہو سکتی ہیں بلکن مر نے کے بعد چیز آنے والے واقعات نہیں۔

میں جسم کے ساتھ روح کا رشتہ نیند کی حالت سے بھی زیادہ کنزوں ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مکمل ہے ہوشی کی حالت میں انسان کے جسم پر نشرت بھی چلائے جائیں تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور بے ہوشی کی اس صفت سے فائدہ اٹھا کر اس حالت کو بڑے بڑے آپریشنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی پیغمبر علامات اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں البتہ دل کی دھڑکن اور سانس کی آمد و رفت باقی رہتی ہے، جس سے اس کے زندہ ہونے کا پہنچتا ہے۔

بے ہوشی سے بھی آگے ایک اور کیفیت بعض لوگوں پر شدید ہماری کے عالم میں طاری ہوتی ہے جسے عرف عام میں سکتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہو جاتی ہیں اور صرف عام آدمی ہی نہیں، ڈاکٹر کو بھی ظاہر زندگی کی کوئی رسم معلوم نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، سانس رک جاتا ہے، بلڈ پریشر غائب ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، لیکن دماغ کے کسی معنی گوئے میں زندگی کی کوئی بر قی روباتی ہوتی ہے یہی وہ حالات ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب ان آخری چارہ کار کے طور پر تنفس یا دل کی دھڑکن کو عال کرنے کے لئے کچھ مصنوعی طریقے آزماتے ہیں بعض افراد پر یہ طریقے کامیاب ہو جاتے ہیں اور مر یعنی اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ

(2) جس حالت میں ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک
حالت اور کم از کم دماغ کے مختصر گوشوں میں ابھی زندگی باقی تھی، لہذا ان
نثاروں میں دماغ کے تصرف کا امکان بعید از قیاس نہیں۔

(ماخوذ از "ذکر و فکر" شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
زید مجدد احمد مضمون "دنیا کے اس پار")

الجواب صحیح

احقر محمود اشرف عفان اللہ عنہ

۱۴۳۱۹/۵/۲۲

والله سبحان و تعالیٰ اعلم

محمد یعقوب عفان اللہ عنہ

دارالافتاء دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳

۱۴۳۱۹/۵/۲۲

علم اور حلم

حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی دامت برکاتہم
استاذِ حدیث و مفتی دارالعلوم کراچی

ادارۃِ اسلامیت کراچی

بعد